



جنت اور دوزخ نہ آپس میں جھگڑا کیا تو دوزخ نہ کہلا کر میرا اندر بڑا سرکش اور متکبر لوگ ہوں گا اور جنت نہ کہلا کر میرا اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گا

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ نہ آپس میں جھگڑا کیا تو دوزخ نہ کہلا کر میرا اندر بڑا سرکش اور متکبر لوگ ہوں گا اور جنت نہ کہلا کر میرا اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گا پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا: 'جنت! تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور اے جہنم، تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور تم دونوں کو بھرنا میرا ذمہ ہے'

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت و دوزخ کے مابین جھگڑا ہوا تو ہر کسی نے اپنی اپنی دلیل دی (اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا) اس کا تعلق امور غیب سے ہے جس پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے اگرچہ عقل اسے بعید ہی جانے جنت نہ دوزخ کے مقابلے میں اپنی دلیل دی اور دوزخ نہ جنت کے خلاف اپنی دلیل پیش کی دوزخ نہ کہلا کر اس میں سرکش و متکبر لوگ ہوں گے جبار لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں سختی اور درشتگی ہوتی ہے اور متکبر لوگ وہ ہیں جو اپنی برتری اور بڑکپن جتانے ہیں یعنی جو لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے کبر کے بارے فرمایا کہ (کبر سے مراد) حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا چنانچہ سرکش اور متکبر لوگ دوزخی ہیں العیاذ باللہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دوزخی شخص لوگوں کے لیے تو بڑا نرم خو اور خوش اخلاق ہوتا ہے تاہم حق کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں وہ سرکشی دکھاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے چنانچہ ایسے شخص کو لوگوں کے ساتھ اس کی یہ نرم خوئی اور مہربانی کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلکہ اس کے باوجود بھی وہ سرکش و متکبر ہی ہوتا ہے اگرچہ لوگوں کے لیے وہ نرم خو ہی کیوں نہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا اور جنت سے کہلا: 'جنت! تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا' اور جہنم سے کہلا: 'اور تم دونوں کو بھرنا میرا ذمہ ہے' اللہ عزوجل نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری اور وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ جنت و جہنم کو بھر دے گا، تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و مہربانی اس کے غضب سے وسیع ہے چنانچہ روز قیامت جب جہنمیوں کو آگ میں ڈال چکے گا تو جہنم کہے گی: اور کوئی ہے، یعنی مجھے اور دو، مجھے اور دو، زیادہ دو، چنانچہ اس میں اللہ اپنے پیر کو رکھے گا، اور ایک لفظ میں "قدم" کا ذکر ہے، چنانچہ جہنم کے حصے آپس میں سکتے جائیں گے، اور رب عزوجل کے اس میں قدم رکھنے کی وجہ سے آپس میں جہنم مل جائے گی، اور کہے گی: بس بس یعنی کافی ہے کافی ہے، اور یہی جہنم کا بھرنا ہے یہی بات جنت کی توجنت بہت وسیع ہے، اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس میں جنتی داخل ہوں گے اور ان جنتیوں کے مقدار کے مطابق زائد حصہ باقی رہ جائے گا، چنانچہ اس کے لیے اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جنہیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے بھرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

